

# Psa

## Chapter 91

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 **יִשָּׁב** **בְּסִתָּר** **עֲלִיזוֹן** **בְּצֵל** **שָׁדַי** **יִתְלוֹזֵן:**  
جو-رہتا-ہے پناہ-میں حق-تعالیٰ-کی سایہ-میں قادر-مطلق-کے بسیرا-کرے-گا  
H3427 H6738 H7706

گا۔ کرے سکونت میں سائے کے مطلق قادر وہ رہے میں پناہ کی تعالیٰ اللہ جو

2 **אָמַר** **לְיְהוָה** **מַחְסֵי** **וּמְצוּדָתָי** **אֱלֹהֵי** **אֲבֹתָי** **בְּ:**  
میں-کہتا-ہوں یہوواہ-کے-لیے میری-پناہ-گاہ اور-میرا-قلعہ میرے-خدا میں-بہروسا-رکھوں-گا  
H0559 H3068 H4268 H0430 H0982

ہوں۔ رکھتا بہروسا میں پر جس خدا میرا ہے، قلعہ میرا اور پناہ میری تو رب، اے گا، کہوں میں

3 **כִּי** **הוּא** **יִצְיִלָּךְ** **מִפָּח** **יָקוּשׁ** **מִדְּבַר** **הַזֹּאת:**  
کیونکہ وہ تجھے-بچائے-گا پھندے-سے شکاری-کے وہا-سے ہلاک-کرنے-والی  
H1931 H5337 H3353 H1698 H1942

گا۔ چھڑائے سے مرض مہلک اور پھندے کے مار چڑی تجھے وہ کیونکہ

4 **וּבְאֵבְרָתוֹ** **יִסָּד** **לְךָ** **וְתַחַת-** **כַּנְפָּיו** **תַּחֲסֶה** **צָנָה** **וְסַחֲרָה**  
اپنے-پروں-سے تجھے-ڈھانے-گا تجھے اور-نیچے اُس-کے-بازوؤں-کے تو-پناہ-لے-گا ڈھال اور-سیر  
H0084 H8478 H3671 H2620 H5507

**אֲמַתּוֹ:**  
اُس-کی-سچائی  
H0571

گی۔ رہے پُشتہ اور ڈھال تیری وفاداری کی اُس گا۔ سکے لے پناہ تلے پروں کے اُس تو اور گا، لے ڈھانپ نیچے کے پروں شاہ اپنے تجھے وہ

5 **לֹא-** **תִירָא** **מִפְחָד** **לַיְלָה** **מִמַּחַן** **יְעוֹף** **יוֹמָם:**  
نہیں تو-ڈرے-گا دہشت-سے رات-کی تیر-سے جو-اُڑتا-ہے دن-کو  
H3808 H3372 H6343 H3915 H2671 H3119

چلے۔ وقت کے دن جو سے تیر اُس نہ کہا، مت خوف سے دہشتوں کی رات

6 **מִדְּבַר** **וּבֵאֵפֶל** **יִהְיֶה** **מִקְטָב** **יְשׁוּד** **צָהָרִים:**  
وہا-سے اندھیرے-میں جو-چلتی-ہے تباہی-سے جو-برباد-کرتی-ہے دوپہر-کو  
H1698 H0652 H1980 H6986 H7736

پھیلائے۔ تباہی وقت کے دوپہر جو سے بیماری وبائی اُس نہ پھرے، گھومے میں تاریکی جو کھا مت دہشت سے مرض مہلک اُس

7 **יִפֹּל** **וּמְצוּדָתָךְ** **אֶלְךָ** **וּרְבֵבָה** **מִיַּמִּינָךְ** **אֶלְךָ** **לֹא** **יִנָּשׂ:**  
گریں-گے تیری-بغل-میں ہزار اور-دس-ہزار تیری-دہنی-طرف تیرے-پاس نہیں قریب-آئے-گا  
H5307 H6654 H0505 H7233 H3225 H0413 H3808 H5066

گا۔ آئے نہیں میں زد کی اُس تو لیکن جائیں، مر ہزار دس ہاتھ دہنے تیرے اور جائیں ہو ہلاک افراد ہزار کھڑے ساتھ تیرے گو

8 **רַק** **בְּעֵינֶיךָ** **תִּבְיֵט** **וּשְׁלֵמַת** **רְשָׁעִים** **תִּרְאֶה:**  
صرف اپنی-آنکھوں-سے تو-دیکھے-گا اور-بدلہ شریروں-کا تو-دیکھے-گا  
H7535 H5027 H8011 H7563 H7200

گا۔ دیکھے سزا کی بے دینوں خود تو گا، کرے ملاحظہ کا اِس سے آنکھوں اپنی تو

9	כִּי- کیونکہ	אֲתָהּ تُو	יְהוָה یہوواہ	מַחֲסֵי میری-پناہ-گاہ	עֲלִיּוֹן حق-تعالیٰ-کو	שָׁמָּה تُو-نے-بنایا	מְעוֹנָהּ اپنا-مسکن
			<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4268</a>			<a href="#">H4583</a>

بے-گیا چھپ میں سائے کے تعالیٰ اللہ تُو ہے، گاہ پناہ میری رُب ہے، کہا نے تُو کیونکہ

10	לֹא- نہیں	תֵּאֲמַר پہنچے-گی	אֶלְיָךָ تجھ-کو	רַעְיָה بُرالی	וְזִנְעָה اور-آفت	לֹא- نہیں	יִקְרָב قرب-آئے-گی	בְּאֶהְלֶךְ: تیرے-خیمے-کے
			<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5061</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0168</a>

گی-پائے نہیں بھٹکے قریب کے خیمے تیرے بھی آفت کوئی گا، پڑے نہیں واسطہ سے بلا کسی تیرا لئے اس

11	כִּי کیونکہ	מַלְאָכָיו اپنے-فرشتوں-کو	יִצְוָה- حکم-دے-گا	לֶךְ تیرے-لیے	לְשֹׁמְרֶיךָ تیری-حفاظت-کے-لیے	בְּכָל- تیری-سب	יְרַכְּיָךְ: راہوں-میں
		<a href="#">H4397</a>	<a href="#">H6680</a>		<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1870</a>

گا،دے حکم کا کرنے حفاظت تیری پر راہ ہر کو فرشتوں اپنے وہ کیونکہ

12	עַל- باتھوں-پر	כַּפִּים بتھیلیوں-پر	וְשֹׁאֲנוֹךְ وہ-تجھے-اٹھائیں-گے	פֶּן- کہیں	תִּהְיוּ ٹھوکر-نہ-لگے	בְּאֶבְנֵי پتھر-سے	רַגְלֶיךָ: تیرا-پاؤں
		<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H5062</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H7272</a>

لگے-نہ ٹھیس سے پتھر کو پاؤں تیرے تاکہ گے لیں اٹھا پر باتھوں اپنے تجھے وہ اور

13	עַל- شیر-پر	שִׁחַל بیر-شیر	וּפְתוֹן اور-ناگ	תְּרֹדָה ٹو-روندے-گا	תְּרִמָּס ٹو-کچلے-گا	כַּפִּיר جوان-شیر	וּתְנִין: اور-اژدہا
		<a href="#">H7826</a>	<a href="#">H6620</a>	<a href="#">H1869</a>	<a href="#">H7429</a>		

گا-دے کچل کو اژدہاؤں اور شیروں جوان تُو گا، رکھے قدم پر سانپوں زہریلے اور شیرببروں تُو

14	כִּי کیونکہ	כִּי مجھ-سے	חֶשֶׁק اُس-نے-محبت-رکھی	וּאֶפְלִטָהּ میں-اُسے-بجاؤں-گا	כִּי- میں-اُسے-سربلند-کروں-گا	יָדַע وہ-جاننا-ہے	שְׁמִי: میرا-نام
				<a href="#">H6403</a>	<a href="#">H7682</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H8034</a>

گا-رکھوں محفوظ اُسے میں لئے اس بے جاننا نام میرا وہ چونکہ گا-بجاؤں اُسے میں لئے اس بے رہتا لیٹا سے مجھ وہ چونکہ بے، فرماتا رب

15	וּיִקְרָאֵנִי وہ-مجھے-پکارے-گا	וּאֶעֱזָרְהוּ اور-میں-اُسے-جواب-دوں-گا	עִמּוֹ- اُس-کے-ساتھ	אֲזַכֵּי میں	בְּצָרָה مصیبت-میں	אֶחְלִצֶהוּ میں-اُسے-چھڑاؤں-گا
	<a href="#">H7121</a>			<a href="#">H0595</a>		

وּאֶכְבֹּדְהוּ:  
اور-اُسے-عزت-دوں-گا  
[H3513](#)

گا-کروں عزت کی اُس کر چھڑا اُسے میں گا-ہوں ساتھ کے اُس میں میں مصیبت گا-سنوں کی اُس میں تو گا پکارے مجھے وہ

16	אֶרְךָ لمبی	יָמִים عمر-سے	אֲשָׁכִיעֶהוּ میں-اُسے-سیر-کروں-گا	וְאֶרְאֶהוּ اور-اُسے-دکھاؤں-گا	בִּישׁוּעָתִי: اپنی-نجات
	<a href="#">H0753</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7646</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3444</a>

گا-کروں ظاہر نجات اپنی پر اُس اور گا بخشوں درازی کی عمر اُسے میں